



سُوْدَةٌ مِّنْهَا وَصَاهَهُ اَنْفُنْنَا اَنْتَيْهُ وَالْمُرْنَهُ قَاجِلَهُ دَاهَلَ
بِعِمَا اِيْتَ بَيْنَتَ لَكَهُ تَذَرُونَهُ وَاحِدَهُ مِنْهُمَا حَيْلَهُ جَهَلَهُ

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ



www.Markazahlesunnat.com

عَصْمَتْ عَائِدَهُنْ حَكَ خَلَدَهُ

مَنَاظِرِ الْاَسْرَى مَاهِرِ ضَيْكَارَتْ حَلَالِهِ بَوْدَالِتَارِهِ دَارِيْتْ بَرَادَهُ زَرِيْ

شارع امام احمد رضا،
فورستان (ગુજરાત)

مَرْكَزُ اَسْلَمِيَّةِ دِرَكَ اَرْضَا



جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی	نام کتاب -----
مناظر اہل سنت، علامہ عبدالستار ہمدانی "مصروف"	مصنف -----
ارشد علی جیلانی "جان" جبل پوری	کپوزنگ -----
کتب خانہ فاروقیہ، میا محل، دہلی	طبعات باہتمام -----
بھارت آفیسٹ پرنس، دہلی	طبعات -----
بار اول، ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۳ء	سن اشاعت -----
(۱۰۰۰) ایک ہزار	تعداد اشاعت -----
مرکز اہل سنت برکات رضا۔ پوربندر (گجرات)	ناشر -----

www.Markazahlesunnat.com

- ملنے کے پتے:-

- (۱) مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر گجرات
- (۲) کتب خانہ امجدیہ، ۲۵۲۵ رہنمی محل جامع مسجد دہلی - ۶
- (۳) فاروقیہ بک ڈپو، ۲۳۲۳ رہنمی محل جامع مسجد، دہلی - ۶
- (۴) دارالعلوم غوث اعظم، امام احمد رضا وڈ، پوربندر، (گجرات)

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ
ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام

عصمت عائشہ
میں

حکمت خداوندی

مصنف

مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار ہمدانی "مصروف" برکاتی، نوری

ناشر

مرکز اہل سنت برکات رضا
امام احمد رضا وڈ، سیمن واڈ، پوربندر۔ گجرات

فہرست عنوانات

”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“

عنوانات	صفحات
سبب تالیف	4
حدیث افک	9
اصل واقعہ کیا تھا؟	9
حضور اقدس ﷺ نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی	12
حضرت عائشہ کی برأت میں قرآنی آیات کا نزول	16
منافقین زمانہ کے اعتراضات	19
حضور اقدس ﷺ کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا	22
عورت کے حقوق کی پاسداری	27
برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت	30



سبب تالیف

آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے عالی جناب رفیق بھائی پوربندری کا بوئسوانہ (افریقہ) سے فون آیا اور انہوں نے فون پر اتنا گفتگو یہ بتایا کہ آج کل افریقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، آپ کی پاکدامنی پر کچھرا اچھا لئے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کی عصمت و عفت پر کلام کیا جاتا ہے۔ جب کہ اپنے ہندوستان میں بھی ایسی باتیں سنی جاتی رہیں اور بروقت اس کے کافی و شافی جوابات بھی علمائے اہل سنت کی جانب سے دئے جاتے رہے۔ مگر جب بات سرحد کو عبور کر جائے تو معاملہ کچھ زیادہ ہی سُگمیں ہو جاتا ہے۔ منافقین زمانہ تو ہر لمحہ نبی کو نین ﷺ اور آپ سے منسوب شخصیات و اشیاء کی کچھ نہ کچھ تنقیص میں رہتے ہی ہیں۔ انہیں موقع ملنا چاہیے اور پھر بس زبان کھل جاتی ہے، واقعات و حادثات کی حقیقت و اصلاحیت جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ لوگوں کو جانے دیتے ہیں۔ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اگر کسی وہابی، تبلیغی سے پوچھا جائے تو شاید ہی جواب ملے، کیونکہ ان کو صرف گستاخی کی ہی حد تک معلومات ہیں، اور اسی کی وہ نشر و اشاعت کرتے ہیں۔

ہوان کے تعلق سے ایک بے ایمان اور بد تمیز گستاخ ہی ایسی باتیں کہہ سکتا، سن سکتا ہے، اب ایمان اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور انبیاء اولیاء اہل بیت اطہار کی محبت میں روز افزوں اضافہ فرمائے۔ نیز حضرت موصوف کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت کو دن دونی رات چونگی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ آمین

ارشد علی جیلانی ”جان“ جبل پوری
خادم: مرکز اہل سنت برکات رضا
پور بندر (گجرات)

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ
۳۰ نومبر ۲۰۰۳ء

اس ضمن میں آیات رباني و احاديث نبوی و اقوال بزرگاں بے شمار ہیں جو اپنے اندر انہائی جامعیت رکھتے ہیں اور ہر ذی عقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

بہر حال! اس تعلق سے جب مناظر اہل سنت، ماہر رضویات، علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب مدظلہ العالی کو اطلاع ملی تو آپ بڑے تشویش منداور متذکر تھے، چند ہی لمحوں کے بعد مجھ حقیر سے فرمایا کہ اگر اس موضوع پر مختصر سا ایک کتابچہ لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا تا کہ سادہ لوح عام مسلمان اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کر سکیں حضرت کے اس جواب پر میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حضرت نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ کل ایک چار گھنٹہ میں پورا رسالہ بنام ”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“ زیور تالیف سے آراستہ ہو گیا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق جو گراہ کن غلط فہمیاں گمراہ گروں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان سے یکنہت کنارہ کش ہو کر انصاف و دیانت سے ایمان کی بات کیجئے۔

رسول پروردگار ذی شان عالی وقار نبی مختار ﷺ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان تو در کنار غیر مسلم بھی ایسی باتیں کہہ کر نکل جائے اور ہم میں سے کسی کے سر پر جوتک رنگیں تو یہ یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری ہو گی۔ جس معزز خاتون کو نبی مختار نے اپنی شریک حیات بنایا

آقائے کائنات ﷺ کا علم غیب قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کے بے شمار مตوفی سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔
 حضور اقدس ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں جو عدل و انصاف اور جو اعتدال فرماتے اس کی نظیر دنیا کے کسی شخص میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ فرماتے تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت قرعہ اندازی فرماتے اور جس زوجہ مطہرہ کے نام قرعہ نکلتا اسے سفر میں ہم رکابی کا شرف عطا فرماتے۔

۵۔ میں غزوہ بنی لمصطلق میں حضور اقدس ﷺ نے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا۔ غزوہ بنی لمصطلق ۵ میں سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ یعنی عورتوں کیلئے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید پارہ ۲۲ سورہ احزاب میں آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی لمصطلق کا واقعہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ سے قبل کا ہے۔ غزوہ بنی لمصطلق میں ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹی پر محمل یعنی کجاوے میں کیا گیا۔ اس کجاوے کو پردہ کیلئے اچھی طرح محبوب کیا گیا۔ تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ام المؤمنین پر نہ پڑے۔ آپ کجاوے میں پردے کے کامل انتظام کے ساتھ بیٹھ جاتیں۔ اور پھر

بسم اللہ الرحمن الرحيم

دور حاضر کے وہابیہ، تبلیغیہ اور دیگر فرق باطلہ کے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ کے تعلق سے سرکار دو عالم ﷺ کے علم غیب پر فتنہ چینی کرتے ہیں اور عوام الناس کو ورغلانے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم ﷺ کو علم غیب تھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ میں اتنا سکوت کیوں فرمایا اور وحی کے منتظر کیوں تھے؟ اس طرح کی لا یعنی باتوں سے عوام الناس کو حق سے محرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچارے کم علم لوگ ان کے بہ کاوے میں آجاتے ہیں اور شیخ علم غیب مصطفیٰ کے انکار کرنے سے ایمان کی لازوال دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کے دردناک عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مباحثت کا آپ بغور مطالعہ فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ منافقین زمانہ اس واقعہ کے ضمن میں کیسی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔

اس کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ پڑاؤ اور منزل پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کجاوے کے اندر پیٹھی رہتی تھیں۔ اور کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ سے اتار لیا جاتا تھا۔ اب پورا واقعہ جس کو ”حدیث افک“ کے نام سے شہرت ملی ہے۔ اس کو خود سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس زبان سے سنئے۔

اصل واقعہ کیا تھا؟

شیخین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کا حکم فرمایا میں اٹھی اور قضاۓ حاجت کیلئے لشکریوں کے پڑاؤ اور ٹھہراو سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی، فراغت پا کر اپنی قیام گاہ پر لوٹی تو اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔ وہ ہار جزع غفار کا بنا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پرواضیں گئی تو ہار کوتلاش کرنے لگی۔ اور اس تلاش میں دیر لگ گئی۔ ادھر لشکر روانہ ہو رہا تھا جو لوگ میرا کجاوا (محمل) اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے وہ آئے اور یہ سمجھا کہ میں اس کجاوے (محمل) میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ محمل کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ میں ایک کم وزن اور سبک جسم عورت تھی۔ لہذا ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ محمل خالی ہے یا بھرا ہوا

ہے۔ میں جب ہارتلاش کر کے اقامت گاہ پر لوٹی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا، وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہ تھا جس جگہ پر میرا ڈریرہ تھا میں اس جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کونہ پائیں گے تو کسی کو بھج کر مجھ کو بلوالیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سوئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے ”معقب کارداویں“ کی خدمت پر مأمور تھے (معقب کاروں یعنی پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ یا لشکر کو چ کرتا تھا تو ایک شخص کارداویں یا لشکر کے پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ کارداویں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ شخص اٹھا لے اور پھر منزل پر پہنچ کر امیر کارداویں کے سپرد کر دے، اور امیر کارداویں تحقیق کر کے جس کی وہ چیز ہوا سے دیدے) حضرت صفوان بن معطل صحیح کے وقت اس مقام پر پہنچے اور مجھ کو سوتا پایا۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے، تب انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اس لئے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ اور مجھ کو پہچان لینے پر فوراً استرجاع پڑھا۔ یعنی ”اَنَّ اللَّهُ وَ اَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“۔ ان کے استرجاع پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور چہرے اور جسم کو میں نے چادر میں اور زیادہ چھپا لیا، حضرت صفوان نے استرجاع کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا اور نہ میں نے کچھ سننا۔ انہوں نے اونٹ سے اتر کر اونٹ کو بٹھایا اور میں جا کر سوار ہو گئی۔ اور حضرت صفوان اونٹ کو کھینچ کر جل دیئے۔ ہم نے جل کر لشکر کو سخت دھوپ اور گرمی کے وقت

کھنڈہ اور میں پالیا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا اور جس شخص نے سب سے بڑھ کر اس کی تشہیر اور اتهام طرازی کی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ حوالہ: (الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الودی)

(از: امام علامہ جلال الدین سیوطی اردو ترجمہ، جلد اس- ۲۵۰ تا ۲۳۹)

بس اتنی سی بات تھی لیکن مدینہ طیبہ کے منافقین اور خصوصاً عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق نے اپنے خبث باطن اور دل میں چھپے ہوئے نفاق کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین محبوب محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کے خلاف تہمت اور افتراضی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ فتنے کا طوفان برپا ہو گیا۔ منافقین کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی شامل ہو گئے، کچھ ضعیف الاعتقاد، سادہ لوح، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آگئے۔

جہاں دیکھو وہاں صرف ایک ہی بات، مبالغہ، غلو اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ منافقین نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت اور شہرت دی کہ خدا کی پناہ۔ ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے منافقین کے بہتان و افک کا دندان شکن جواب دیا اور بارگاہ رسالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔

امیر المؤمنین خلفیتہ اُلمسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ

رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے جسم اقدس پر جب کہ ملکھی تک نہیں پیٹھتی کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں سے آلووہ ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ آپ کے لئے کیسے گوارا کرے گا، اس بات کو جو اس سے کہیں زیادہ بدترین ہو اور اس سے آپ کی حفاظت نہ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا سایہ زمین پر نہیں گرتا، مبادا کہ وہ زمین ناپاک ہو۔ حق تعالیٰ جب کہ آپ کے سامنے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کی زوجہ مختارہ کی ناشائستگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔ مولاۓ کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے اتنا گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کے پائے اقدس کے نعلین مبارک میں نجاست کی آلووگی ہو اور وہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ آپ نعلین کو پائے اقدس سے اتار دیں۔ تو اگر یہ واقعہ نفس الامر میں وقوع پذیر ہوتا تو یقیناً رب بتارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دیتا۔

(۱) مدارج النبوة از شیخ عبدالحق محدث دہلوی اردو، جلد اس- ۲۸۰۔

(۲) الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی۔ اردو ترجمہ جلد اس- ۲۵۳۔

حضور اقدس علیہ السلام نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی

منافقین و مشرکین کی جانب سے حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی پر مسلسل الزامات و اتهامات کا سلسہ جاری رہا۔ بلکہ روز بروز اس میں اضافہ اور مبالغہ ہوتا رہا۔ ادھر صحابہ کرام و جانشیاران بارگاہ

رسالت منافقین کے اقوال والزامات کی تردید فرماتے رہے۔ یہ معاملہ ایک ماہ سے زیادہ طول پکڑ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بر بناء مصلحت سکوت فرمایا اور منافقین کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور پاک دامتی سے آپ یقیناً بخبر تھے لیکن مصلحت ایزدی کی بنا پر آپ نے اپنی رفیق حیات کی برأت کا صراحةً اعلان نہ فرمایا۔ البتہ اشارۃ اپنے جاں ثار صحابہ کے سامنے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا خَيْرًا یعنی خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔

یہاں تک کہ اس فتنے کے دوران آپ نے مسجد بنوی میں دوران خطبہ فرمایا کہ ”کون ہے جو میری مدد کرے، اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی“، (اس سے مراد عبد اللہ بن ابی بن سلویل منافق تھا) پھر فرمایا کہ ”قسم ہے خدا کی! میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا“

قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور اس پر غور و فکر فرمائیں کیونکہ اس واقعہ کے ضمن میں جس طرح زمانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین نے فتنہ برپا کر کھا تھا، اسی طرح دور حاضر کے منافقین فرقہ وہابیہ، تبلیغیہ وغیرہم نے بھی اس واقعہ کے ضمن میں بہت اودھم مچارکھا ہے اور اس واقعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ علی الاعلان حضرت عائشہ کی برأت ظاہر کرتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ دور حاضر کے منافقین کا یہی

شیوه ہے کہ وہ تو ہین و تفصیل رسالت کرنے کیلئے قرآن کے معنی اور احادیث کے مفہوم میں تزمیں و تردید پیدا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں بقول:

ذکر روکے فضل کاٹے ، نقص کا جویاں رہے
پھر کہہ مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی
(از: امام احمد رضا، محدث بریلوی)

ذکر واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس واقعہ میں کیا کیا اسرار و موزع خخفی تھے؟ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مصلحت کی بنا پر سکوت فرمایا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ انشاء اللہ کتاب کے اختتام میں عرض کروں گا۔ پہلے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لشکر کے قافلے سے بچھڑ گئیں اور قافلہ جب روانہ ہو گیا تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ بچھڑ گئی ہیں۔ محمل اٹھانے والوں نے یہی سمجھ کر محمل (کجاوے) کو اونٹ پر کھدیا تھا کہ آپ اس کے اندر تشریف فرمائیں۔ لیکن جب یہ لشکر مدینہ شریف کے قریب صلسل نامی مقام پر ٹھہرا اور اونٹ بٹھائے گئے، مگر محمل سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باہر تشریف نہ لائیں، تب پتہ چلا کہ آپ پیچھے رہ گئیں ہیں، ان کے انتظار میں لشکر بمقام صلسل ٹھہرا رہا لشکر میں پانی اس انداز سے تھا کہ مدینہ شریف پہنچ جائے۔ لیکن ام المؤمنین کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قافلہ کو مجبوراً ان کے انتظار میں رکنا پڑا اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پسینے

کیلئے بھی پانی کی تیگی تھی۔ پانی کے بغیر وضوا و روضو کے بغیر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن چونکہ یہ قافلہ محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازوالجہ وبارک وسلم کے انتظار میں ٹھہر نے کی وجہ سے پانی کی قلت کی دقت و مصیبت میں بتلا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حرم محترمہ کے صدقے اور طفیل ان لشکر والوں پر مہربان ہو کر، ان پر اور ان کے طفیل قیامت تک کے مسلمانوں پر کرم فرمائے تینم کا حکم نازل فرمایا۔ جس کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت سید بن حفیز رضی اللہ عنہ نے بارگاہ صدیقہ میں عرض کیا کہ مَا هِيَ بِأَوْلِ بَرْكَاتِكُمْ يَا أَكِلِ أَبِي بَكْرٍ اے اولاد ابو بکر! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں پہنچی ہیں۔ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۷۵)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وازوالجہ عنہ کو ملنے میرے گھر تشریف لائے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ! میرے حضور تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لہذا اگر تم بڑی اور پاک ہو، تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی بیان فرمائے گا اور تمہاری براہت کی خبر نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر میرے آنسو ٹھکم گئے یہاں تک کہ میری آنکھوں میں ایک قطرہ تک بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ اس خوشی کی بنا پر تھا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وازوالجہ کے کلام مبارک سے بشارت پائی تھی۔

حوالہ: (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۸۱

(۲) خصائص کبڑی، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۲۵۲

چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی اور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے تمام باتیں دریافت کیں۔ میں تمام رات روتوی رہی اور صبح ہو جانے پر بھی میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، تمام شب جاگتی ہی رہی، پلک تک نہ چپکی۔ میں دن بھر مسلسل روتوی رہی، میرے آنسو رو کے نہ رکتے تھے اور نیند نام کو بھی نہ تھی، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ شدت گریہ کی وجہ سے شاید میرا جگر پہنچ جائے گا۔ حوالہ: (الخصوصيات الكبيرة، اردو، جلد ۱، ص ۲۵۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وازوالجہ مجھ کو ملنے میرے گھر تشریف لائے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ! میرے حضور تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لہذا اگر تم بڑی اور پاک ہو، تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی بیان فرمائے گا اور تمہاری براہت کی خبر نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر میرے آنسو ٹھکم گئے یہاں تک کہ میری آنکھوں میں ایک قطرہ تک بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ اس خوشی کی بنا پر تھا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وازوالجہ کے کلام مبارک سے بشارت پائی تھی۔

حضرت عائشہ کی براہت میں قرآنی آیات کا نزول

ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں امید

رکھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برأت فرمادے گا۔ اور میری پاکی اور پاک دامنی کی خردے گا۔ لیکن مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ میرے اس معاملہ میں وحی نازل فرمائے گا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو اور اپنے معاملے کو اس قبل نہیں سمجھتی تھی۔ البتہ مجھ کو صرف اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ ﷺ شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذریعہ سے مجھ بے چاری کی عفت اور عصمت پر گواہی مل جائے گی۔ اللہ کا کرم دیکھئے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ یہاں یک حضور پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور جو شدت ایسے موقع پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک پر موتویوں کے مانند پسینہ چمکنے لگا۔ آپ پر خوب ٹھنڈی کے موسم میں بھی نزول وحی کی شدت سے پسینہ وغیرہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور یہ اس گرانی اور بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا، جو کلام مجید آپ پر اترتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اقدس ﷺ نزول وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے، تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ تبسم فرمائے تھے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ”اے عائشہ صدیقہ! حق تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دے کر تمہیں پاک گردانا ہے۔ اس تھمت سے تمہاری پاکی بیان کی ہے اور تمہاری شان میں قرآن بھیجا ہے۔“

حوالہ: (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲۔ ص ۲۸۳

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱۔ ص ۵۵۲

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت إنَّ الَّذِينَ

جَاءُوا بِالْإِلْفِكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ (پارہ ۱۸، سورہ نور، آیت ۱۱) ترجمہ: ”بے شک وہ کہ یہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت،“ (کنز الایمان) سے لے کر دس ۱۸ آیتوں تک وحی ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں دس آیات مذکورہ اور دیگر آٹھ ۱۸ آیات ملکر کل ۲۶ اٹھارہ آیات نازل فرمائیں۔ سورہ نور آیت ۲۔ پارہ اٹھارہ میں صاف حکم نازل ہوا کہ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسِنِينَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِيْنَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبِلُوا الَّهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا۔

ترجمہ: ”اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں، پھر چار گواہ معاشرہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی ۵۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی بھی نہ مانو۔“ (کنز الایمان)

ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تھمت اور افک کے سلسلہ میں قرآن مجید کا انداز بیان بڑا جامع اور پر زور ہے۔ اس میں اعجاز و ایجاد اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کئے گئے ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کئے گئے۔ تھمت طرازی اور سخن سازی کا منافقین کی طرف سے جو مظاہرہ ہوا، جس سے اہل بیت رسول اور خود رسالت مآب ﷺ کو جوانہ تائی صدمہ، دکھ، اور تکلیف پہنچی تھی، اس کی وجہ سے انداز بیان میں شدت ہوئی ہے۔

الخاصةُ الْكَبِيرِ فِي مَعْجَزَاتِ خَيْرِ الْوَرَى مِنْ إِمَامِ أَجْلِ حَضْرَتِ عَلَامَةِ عبدِ الرَّحْمَنِ جَالِ الدِّينِ سَيِّدِ الطَّلاقِ قَدِيسِ سَرِّهِ نَفَخَتْرِي كَأَيِّهِ قَوْلٌ نَقْلٌ فَرَمِيَّاَهُ كَهُ "اَصْنَامٌ پَرْسِتٌ اَوْ شَرَكٌ كَبَارَےِ مِنْ جَوْتَبِيهَاتٍ هُنَّ، وَهُبَّھِي مَقْبَلَةً اَسَ سَےِ کَچَھِ کُمْ هُنَّ هُنَّ۔ کَيْوَنَکَهُ يَاَكِ پَاَکِبَاَزِ زَوْجَهُ رَسُولِ ﷺ کَیِ طَهَارَتْ وَبِرَأَتْ کَیِ حَامِلٌ هُنَّ۔"

وَحِيَ کَنْزُولَ کَبَرَےِ مِنْ حَضُورِ اَقْدَسِ ﷺ نَسَرَةَ نُورِ کَیِ دَسِ مَلِ آَتِیَوُنَ کَیِ تَلَاقِتْ فَرَمَائِیَ اَوْ پَھَرَ حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَهُ کَبَرَےِ مِنْ نَکَلِ کَرْخُوشِ وَخَرْمِ مَسْجِدِ نَبُوَیِ مِنْ تَشْرِيفِ لَائِےِ اَوْ صَحَابَهُ کَوْجَعِ فَرَمَاكَرْخَطِبَدِیَاَ اَوْ رَاسِ کَبَرَےِ مِنْ نَازِلِ شَدَهُ آَتِیَوُنَ کَیِ صَحَابَهُ كَرَامَ کَسَانِتَهَ تَلَاقِتْ فَرَمَائِیَ۔ اَوْ تَهْمَتَ لَگَانِهِ وَالَّوْنِ کَوْظَلَ فَرَمَيَاَ تَهْمَتَ لَگَانِهِ وَالَّوْنِ جَبَ بَارِگَاهِ رسَالَتِ مِنْ حَاضِرَکَنَےِ گَنَےِ، تو سَرَکَارَنِهِ اَنِ پَرْ "حَدَّ قَذَفَ" جَارِی فَرَمَيَاَ اَوْ هَرَّ اَيِکَ کَوَاَسِ ۸۰۰ اَسِ ۸۰ کَوْڑَ لَگَوَائَےِ۔

(حوالہ: مدارج النبوة۔ اردو، جلد ۲۔ ص ۲۸۳)

یہاں تک کے مطالعہ سے واقعہ کی ابتداء سے انتہا تک کی واقفیت حاصل ہو چکی ہوگی۔ اب دور حاضر کے منافقین کے اعتراضات میں سے اہم اعتراض جو اس واقعہ کے ضمن میں حضور اَقْدَسِ ﷺ کے علم غیب پر ہیں اس کا جواب دیں۔

منافقین زمانہ کے اعتراضات

دور حاضر کے منافقین یعنی وہابی، نجدی، دیوبندی، اور تبلیغی فرقہ باطلہ کے

مبلغین و مقررین اپنے جہالت سے لبریز بیان اور تقریر جو دراصل تقریر نہیں بلکہ تفرقی بین اُسْلَمِ مُسْلِمین ہوتی ہے۔ بڑے تپ و تپاک سے اودھم مچاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت و پاکِ دامتی کے سلسلہ میں حضور نے ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ تک سکوت کیوں فرمایا؟ آپ نے فی الفُوْرَانِ کی برات کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ بلکہ وحی کے منتظر ہے۔ اور جب وحی آئی تب آپ نے برات کا اعلان فرمایا۔ اس سے پہنچا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ فوراً برات کا اعلان کر دیتے۔ (معاذ اللہ)

بس یہی ہے ان کے دعویٰ کی دلیل و برهان۔ مشیت ایزدی اور حکمت الٰہیہ کے رموز کو سمجھنے سے یک لخت قاصر و عاجز ہونے کی وجہ سے ایسی بے ڈھنگی بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس واقعہ کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں اور ان تمام حکموں سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو آگاہ فرمادیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے سکوت فرمایا تھا۔ کچھ وجوہات ذیل میں عرض ہیں۔

حضرت سید تناعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی تھی، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ زبان سے تو فتنمیں کھا کھا کر حضور اَقْدَسِ ﷺ کو اللہ کا رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن پیٹھ کے پیچھے حضور کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر آپ کی گستاخی کرتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے۔ منافقین کی ان دو غلی باقوں کا

اللہ نے پرده فاش فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک کامل سورۃ بنام ”منافقون“ نازل فرمائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذَّابُونَ“

(پارہ ۲۸۔ سورہ منافقون۔ آیت ۱)

ترجمہ: ”جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور پیشک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں“ (کنز الایمان)

ان منافقین کی ایک خصلت کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے کہ:

”إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ“ (پارہ ۱۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۱۲)

ترجمہ: ”اور جب ایمان والوں سے ملیں، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔“ (کنز الایمان شریف)

رسول کے ماننے میں اور ایمان کے اقرار میں منافقین دوغنی بولی بولتے ہیں اور ان کے اقرار و ایمان کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ

منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ منافق کو صرف جھوٹا نہیں بلکہ ”ضرور جھوٹا“ کہا گیا ہے۔ یعنی ان کا جھوٹ اتنا عام ہے کہ ان سے صدق کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ منافقوں کی بے حیائی اور بے شرمی کا یہ حال تھا کہ ابھی انکار اور ابھی رجوع۔ بلکہ دن کے اجائے کورات کی اندھیری کہہ دینے میں بھی ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آپ کی تندیب کرتے تھے، آپ کے بین مجازات کو معاذ اللہ جادو اور سحر کہتے تھے۔ لہذا ان جھوٹوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا اعلان کرنا بے سود تھا۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان فرماتے تو منافقین ایک الزام یہ گڑھتے کہ دیکھو! اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہیں، زوجیت کی بناء پر طرفداری کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے عیب پر پرده ڈال رہے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا

حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں یقیناً باخبر تھے۔ اسی لئے تو اپنے جانشی رحماء کرام کی مقدس جماعت کے سامنے حضرت عائشہ کے معاملے میں فرمایا وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ إِلَّا خَيْرًا یعنی: ”خدا کی قسم! میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا“، اس جملے کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نے اس جملے کو ”وَاللَّهُ“ یعنی ”خدا کی قسم“ سے مؤکد

فرمایا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حضرت عائشہ کی عصمت کا صرف گمان نہیں تھا بلکہ یقین کامل تھا۔ اسی لئے تو اللہ کی قسم سے جملے کی ابتداء فرمائ کر اپنے یقین کامل کا اظہار فرمائے ہیں۔ جب نبی اور رسول مقصوم ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہے۔ تو نبی اور رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانا، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ توجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خدا کی قسم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت فرمائے ہیں، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس واقعہ کی حقیقت کا یقین کے درجہ میں علم تھا، بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تہمت لگانے والا اور فتنہ اٹھانے والا کون ہے؟ اسی لئے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ: ”کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی؟“ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفت کے جذبے کے تحت طیش میں آ کر منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلویں منافق جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس سے انتقام لینے کیلئے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے لیکن حضور نے انہیں باز رکھا۔ اور مصلحت خاموش کر دیا کیونکہ اگر حضور ان حضرات کو اجازت انتقام عطا

فرماتے اور وہ تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلویں منافق کو قتل کر دیتے، تو دیگر منافقین یہ واویلاً مچاتے کہ حضور نے اپنی زوجہ کی طرفداری میں حقیقتِ واقعہ کو چھپا نے کیلئے عبد اللہ بن ابی کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا۔ اپنی زوجہ کی پاک دانی کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا قتل و غارت گری کی راہ اپنائی۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو خاموش کر دیا۔ تاکہ فتنہ کی آگ اور زیادہ نہ پھڑ کے۔

دور حاضر کے منافقین صرف اسی بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان نہ کرتے ہوئے سکوت کیوں اختیار کیا۔ اس کا جواب ضمناً تو اور پر بیان ہو چکا کہ اگر آپ برأت کا اعلان فرماتے تو منافقین مانے والے نہ تھے بلکہ دیگر الزامات تراشتے۔ اس لئے حضور نے سکوت فرمایا۔ اور ایک اہم مصلحت یہ تھی کہ حضور برأت کا اعلان کریں وہ اتنا موثر نہ ہو گا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان برأت کا اثر ہو گا۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ کی کوئی چیز گم ہو گئی، کچھ مخالف لوگوں نے چوری کا الزام بادشاہ کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے پر لگایا۔ حالانکہ کہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بے قصور تھا۔ وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا یقین کے درجہ میں علم ہے۔ لیکن وقت کا تقاضا اور مصلحت حالات یہ ہے کہ وزیر خاموش ہی رہے۔ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ کر اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا اعلان کرے گا تو الزام لگانے والے منافقین کا گروہ یہی

کہے گا کہ اپنے بیٹے کی محبت اور طرفداری میں وزیر اعلیٰ اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھارے ہے ہیں۔ لہذا وزیر اعلیٰ سکوت اختیار کرے یہی بہتر و مناسب ہے، چاہے تہمت کی آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ صبر کرے اور خاموش رہ کر اس وقت کا انتظار کرے کہ حق بات واضح ہو کر سامنے آجائے۔ اچانک ایک دن بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فرزند رجمند پر چوری کا جواہر اُلگایا گیا ہے اس میں وہ بری اور بے قصور ہے۔ وزیرزادہ دیانتدار اور نیک بخت ہے۔ ایسے نیک بخت پر چوری کا جواہر اُلگانا، ظلم شدید اور گناہ عظیم ہے۔ ہم وزیرزادہ کو اس چوری کی تہمت سے باعزت بری کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم نافذ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے نیک بخت اور دیانتدار پر غلط الزام لگاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس اعلان کے بعد الزام لگانے والوں کو بادشاہ کوڑے لگوائے اور کوڑے لگانے کا کام اپنے وزیر کے ہاتھ سے انجام دلوائے۔

اب قارئین کرام، سوچیں! وزیرزادہ کی عزت کس میں بڑھی؟ اگر وزیر اپنے بیٹے کی برآت کا اعلان کرتا ہے تو اس میں وہ عزت و شان حاصل نہ ہوتی جو عزت اور مرتبہ بادشاہ کے اعلان سے حاصل ہوا۔ ٹھیک اسی مثال کو حضرت سعد بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں ذہن نشیں کر کے سوچیں کہ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے برآت و عصمت کے اعلان میں منافقین کو طرفداری اور پاسداری کے

الزام کی گنجائش تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برآت کا اعلان قرآن مجید میں فرمادیا، تواب کسی کو سکنے کی، ہحسکنے کی، بد کنے کی، رینگنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔

اگر حضور اقدس ﷺ اپنی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برآت کا اعلان فرماتے تو وہ حدیث کہلاتی اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں دیگر واقعات کی طرح شمار کیا جاتا۔ حدیث کے متن (عمارت) کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی لیکن اللہ نے حضرت عائشہ کی برآت کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت قیامت تک نماز میں تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ ظاہر ہوتی رہے۔ عوام مسلمین میں دینی تعلیم و معلومات حاصل کرنے کی رغبت اور شوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم لوگ اپنی اولاد کو دے پاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حدیث و فقہ کے علم کی طرف بہت کم افراد مائل ہیں۔ اگر برآت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذریعہ حدیث ہوتی تو اتنی شہرت و عزت نہ ملتی جتنی کہ قرآن مجید سے برآت ہونے پر حاصل ہوئی۔

چھوٹا سا دیہات ہوگا، چاہے اس میں مسلمان کے دور چارہی مکان ہوں لیکن وہاں کسی نہ کسی گھر میں قرآن مجید ضرور ہوگا۔ لیکن وہاں کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ بلکہ اکثر شہروں میں جہاں دارالعلوم نہیں ہوتے وہاں بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا کوئی بھی ایسا

گوشہ نہیں ہے جہاں کلام مجید کا نسخہ موجود نہ ہو۔ برکس اس کے کتب احادیث بہت کم دستیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ برأت حضرت عائشہ کا جو اعلان فرمایا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے محبوب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا ڈنکا قیامت تک بجتار ہے۔

اگر بجائے قرآن مجید احادیث سے حضرت عائشہ کی برأت و عصمت کا اعلان ہوتا، تو منکرین عظمت کو تنقیص کیلئے ایک راہ یہ ملتی کہ وہ اپنی ذہنی اختراع سے یہ کہہ دیتے کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“، جیسا کہ دور حاضر کے منافقین وہابی، نجدی، دیوبندی، تبلیغی لوگ عظمت و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز و ثبوت کی احادیث سے عوام کو بے التفات و بے اعتماد کرنے کیلئے بلا کسی ثبوت علم اسماء الرجال کہہ دیتے ہیں کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“، لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو ضعیف کہنے کی کسی میں جرأت نہیں۔ اور اسی حکمت کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔

عورت کے حقوق کی پاسداری

اسلام ایسا کامل مذہب ہے کہ جس نے نوع انسان کو حیات جاوہ دانی بخشی ہے۔ حقوق الناس کی صحیح پہچان اور نشاندہی اسلام ہی نے عالم دنیا کو بتائی ہے۔ اسلام نے دنیا کو معاشرت کا صحیح طریقہ و سلیقہ دکھایا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا

اور مظلوم کی حمایت کرنا اسلام کا طریق عمل ہے۔ خصوصاً عورتوں پر اسلام کا عظیم احسان ہے۔ ابتدائے اسلام کے دور میں عورت کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو گویا اس کو سانپ سونگھ گیا ہو ایسا اس کا چہرہ ہو جاتا تھا اور سماج کے رواج کے مطابق لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میراث میں عورت کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عورت کو صرف دل بہلانے کا کھلونا سمجھ کر اس سے دل لگی کی جاتی تھی۔ اور جب اس سے جی بھر جاتا، تو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکتے تھے۔ عورت پر زنا اور دیگر عیوب کے الزام لگا کر اس کو رسوا اور ذلیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کسی بھی باعصمت و پاک دامن خاتون کو ایک آن میں فاحشہ اور بد کردار کے لقب سے نوازنے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی، جس کے جی میں جو آیا، وہ منہ سے کہہ دیتا تھا لیکن محبوبہ محبوب رب العالمین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کاروئے زمین کی تمام عورتوں پر احسان ہے کہ آپ کے سبب سے قرآن مجید میں عورتوں کی عصمت کی پاسداری اور پاسبانی کی گئی۔ ان کی پاک دامنی کی عظمت کی حفاظت کی گئی اور بات بات میں عورتوں کی پاک دامنی پر تہمت کا کچھڑا چھالنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے قرآن مجید پارہ ۱۸۵ سورہ نور، آیت نمبر ۳ میں صاف اور صریح حکم فرمایا گیا کہ: ”اور جو لوگ پارسا عورتوں کو عیوب لگائیں، پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں، تو انہیں اسی ۸۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے نزول سے عورتوں کی پارسائی پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں فعل فتح کی تہمت لگانے والوں کے منہ پر علی گردھی تالے لگ گئے۔ صرف منه پہ تالا ہی نہ لگایا گیا بلکہ تالا کھولنے والوں کو اسی ۸۰ کوڑے لگانے کی سزا متعین کی گئی۔ جس کو شرعی اصطلاح میں ”حد قذف“ کہا جاتا ہے۔ صرف قذف پر ہی اکتفانہ کیا گیا بلکہ تہمت لگانے والے کو دامنی طور پر ”مردود الشہادۃ“، قرار دیا گیا۔ یعنی ہمیشہ کیلئے اس کی ہر گواہی متروک و غیر معترک رکرداری گئی۔ مذکورہ آیات کے علاوہ کئی آیات جھوٹی تہمت لگانے والوں کی مذمت میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر یہاں نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے تہمت بازوں کو سورہ نور میں فاسق، جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت وغیرہ وعیدوں سے ڈرایا اور خبر دار کیا گیا ہے۔ اور مردوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ عورت بھی خدا کی ایک معزز مخلوق ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل مت جانو، اس کو یہ سمجھ کر اس کے کردار پر کچھڑا چھالنا ترک کر دو، اس کی عزت و آبرو کی نگہبانی کرو، اس کے دامن عصمت کو تہمت والزام سے داغدار کرنے سے باز رہو۔ ورنہ اسی ۸۰ کوڑے، مردود الشہادۃ، فاسق، جھوٹے، اور اللہ کی لعنت کے حقدار جیسی سزا میں بھکتنے کیلئے تیار رہو۔ یہی اسلامی تہذیب ہے۔ اس کے دائرے میں رہو اور یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔

اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فوراً فرمادیتے اور وہی کا انتظار نہ فرماتے تو:-

- کیا سورہ نور کی دولت سے ہم سرفراز ہوتے؟
- کیا اس میں معاشرے کے نظام کی درستگی کے جواہکامات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے؟
- عورتوں کی عزت و آبرو کی پاسداری اور پاسبانی کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی؟
- عورتوں کی عصمت اور پاکدامنی کی تاقیامت جو حفاظت کی گئی ہے وہ کیا حاصل ہوتی؟
- تہمت والزام تراشی جیسے فتح و مذموم طور و اطوار کے ترک کرنے کا حوصلہ ملتا؟
- کیا یہ اخلاقی محسان دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے؟
- ان تمام احکامات و وجوہات کی بناء پر عالم ما کان و ما یکون، علم غیب جانے والے، ہربات سے باخبر، پیارے رسول اللہ ﷺ نے توقف فرمائ کر سکوت فرمایا۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر و عاجز، کوچشم و کور باطن دور حاضر کے منافقین نے سکوت مصطفیٰ ﷺ سے غلط استدلال حاصل کر کے یہ اویلا مچار کھا ہے کہ معاذ اللہ آپ ﷺ کو علم غیب نہیں تھا۔

برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت

دور حاضر کے منافقین ایک شور یہ بھی مچاتے ہیں کہ برأت حضرت عائشہ

صدیقہ کے معاملے میں حضور نے عجلت کیوں نہ فرمائی۔ اور اتنی تاخیر کیوں کی؟ اب اسی سوال کو ہم دور حاضر کے منافقین کی جانب لوٹاتے ہیں کہ برآت حضرت عائشہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے نزول میں تاخیر کیوں فرمائی؟ ہے کوئی آپ کے پاس اس کا جواب؟ لیکن بحمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے پاس اس کا شافی و وافی و کافی جواب ہے۔ نزول آیات قرآن کی تاخیر میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے اور فوراً اس کا مدارک کر دیا جائے تو اس معاملہ کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ فی الفور رفع دفع ہو جانے والا معاملہ صرف کچھ دنوں تک عوام الناس میں زیر بحث اور موضوع سخن رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اثرات تادیر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی اس واقعہ کی سینگینی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ فی الفور حل شدہ معاملے میں لوگوں کے نظریات و تجسسات بھی کامل طور سے رونما نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کے تفکرات اندر ہی اندر دب کر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے ذاتی رویے کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب عالیٰ کس جانب ہیں؟ موافقین میں سے ہیں یا مخالفین کی گروہ میں شامل ہیں تاکہ تمیز ہو سکے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا؟

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تھمت کا معاملہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محظوظ عظیم صدیق اللہ کی زوجہ محترمہ کی عصمت کا معاملہ

تھا۔ اور در پردہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی عزت و آبرو کا معاملہ تھا۔ تھمت کا تعلق کردار سے تھا، پاک دامنی سے تھا، ایک عورت کے لئے اپنی عصمت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ ایک عورت اپنی عصمت کے تحفظ کیلئے دنیا کا سارا عیش و آرام قربان کرنے کیلئے ہمہ وقت مستعد ہوتی ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تھمت کا معاملہ حضور اقدس صدیق اللہ فوراً رفع دفع فرمادیتے، تو اس سے معاملہ کی اہمیت اور سینگینی کا احساس نہ ہوتا۔ آئئے دن ایسے اتهامات کا اعادہ اور سلسلہ جاری رہتا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں بلکہ اور بھی پاک دامن خواتین کے دامن عصمت جھوٹی تھتوں سے داغدار ہوتے رہتے۔ اور اس کا دائیگی طور پر کوئی مدارک نہ ہوتا۔ حضور اقدس صدیق اللہ نے معاشرے سے اس قسم کے ردیل افعال کو نیست و نابود فرمانے میں جو کردار ادا فرمایا ہے، وہ پوری دنیا کے لئے ضرب المثل ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ الزام تراشی کی عادت قبیحہ کو اس طرح ختم کیا جائے اور ایسے اقدام کئے جائیں کہ کوئی بھی شخص کسی پاک دامن عورت کی عصمت پر تھمت لگانے سے پہلے اس کے انجام سے باخبر اور خوفزدہ ہو کر اس کے ارتکاب سے تھرثار کانپے۔

آج تو میری زوجہ محترمہ کی عصمت کو نشانہ بنایا گیا ہے، کل کسی اور پاک دامن خاتون کی ردائے عصمت کو خبزرہمت سے پاش پاش کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سبب بنا کر عصمت النسا کے تحفظ کے دائیگی اور مستقل

اقدام اٹھائے جائیں۔ اسی لئے اس معاملہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور اہمیت دینے کیلئے ہی اس معاملہ کو اتنا طول دیا گیا۔ طول دینے سے اہم امر یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کی آراء و نظریات معلوم ہو جاتے ہیں تاکہ کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس معاملہ کی اطلاع نہ ہوئی، ورنہ میں اپنی رائے اس طرح پیش کرتا۔ توجہ سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس معاملے کا حل اور فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کسی کو غیر مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان سب امور کے حصول کے لئے معاملے کو طول دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص بعد میں اپنی علمی کا اظہار و بہانہ نہ کر سکے۔ لہذا اسی غرض و حکمت کی بناء پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو ایک ماہ سے زیادہ مدت تک طول دیا گیا۔

کسی معاملے کو طول دینے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اپنی وفاداری اور جا شاری کا دم بھرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ عین وقت پر کون ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے پائے استقلال میں تزلزل آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص؟ بہت سے لوگ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ ان کے عزم و ارادے، فیصلے اور رائے میں اپنا کوئی نظریہ کا گرنہیں ہوتا۔ بلکہ وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ماحول کے پیش نظر جہاں جھکاؤں ہوتا ہے اسی طرف جھکتے ہیں۔ ناقص الرائے اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کے فعل و ارتکاب کا اتباع کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر کچھ فیصلہ کرنے سے وہ لوگ عاجز و قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی اور خود ارادیت Self Determination کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ارادوں اور فیصلوں کے محتاج اور مرہون منت ہوتے ہیں۔ اور یہ خصلت اور عادت مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس میں خوف و اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی حق و باطل کا فیصلہ کئے بغیر کسی کی دیکھا دیکھی میں غلط را اختیار کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا عام حالت میں پتہ نہیں لگتا بلکہ جب کبھی کوئی سُنگین معاملہ ہوتا ہے، تب ان کی ذہنی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لوگ ماحول سے متاثر ہو کر ہمیشہ چلتی گاڑی میں چڑھ جانے کی طامع ذہنیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اپنے نفع اور لائق کے حصول کی خوکی بناء پر اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھوں کی شرم بھی نہیں ہوتی، دوستی اور وفاداری کے تمام عہد و پیمان وہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ بتقاضہ دوستی و محبت مصیبت کے وقت مدد کرنا وہ بھول جاتے ہیں، مدد کرنا تو در کنار، اٹھے وہ مخالفت کرنے والوں کے زمرے میں اپنی جائے نشست اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مدعاً دوستی اور سچے وفادروں کا امتیاز مصیبت کے معاملے کے وقت ہی صحیح طور پر ہوتا ہے۔ عام حالات میں زبانی اقرار محبت و فداداری تو سب کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے

تب عاشق صادق سایہ کی طرح ساتھ رہتا ہے اور دھوکے باز اڑ کر سامنے والے کنارے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہری روئیے سے پتہ نہیں چلتا کہ جناب عالیٰ کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن جب موقع آتا ہے تو ایسے لوگ اپنی محبت و عداوت کا اٹھا کرنے میں ذرہ برابر کی بھی کامی نہیں کرتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو اتنی لمبی مدت تک طول دینے کے پس پرده حکمت ایزدی یہی تھی کہ لوگوں کا امتحان اور آزمائش ہو جائے اور اس امتحان کے ذریعہ لوگوں کا امتیاز بھی ہو جائے۔ قارئین کو حیرت ہو گی کہ منافقین کی باتوں کے جال میں سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان بھی پھنس گئے تھے اور ان کا شمار بھی اہل افک یعنی تہمت لگانے والوں میں ہوتا ہے۔ بڑا ہی نگین معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان و آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ایسے موقع پر امتحان لیتا ہے۔ جب پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَغْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ۔ (پارہ ۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۳)

ترجمہ: اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے، ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا

کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
(کنز الایمان)

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے اور جو امتحان میں ناکام ہوتے ہیں ان پر سزا و عتاب فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کے معاملے میں اچھوں اچھوں کا امتحان ہو گیا۔ جو سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان منافقین کے دام فریب میں آکر اہل افک میں شامل ہو گئے تھے، ان کو حد قذف کی سزا یعنی کہ اسی ^{۸۰} کوڑے لگوائے گئے۔

اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں آیت تہم نازل ہوئی جو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے راحت اور آسائش ہے۔

ایک کہاوت ہے کہ ”خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے“ زمانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگا کر شہر اور غلط پروپیگنڈوں کا بازار تو گرم کر دیا لیکن ان کی عقولوں پر بے وقوفی کے پردے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام جوڑ رہے تھے، وہ شخص یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے ایسی حرکت کے صدور کا امکان ہی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت صفوان ”نامرد“ تھے۔ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ ”یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نامرد تھے۔ اور ان کا آلہ تناسل ناکارہ تھا۔ خود حضرت صفوان بن معطل

رضی اللہ عنہ نے اپنی نامردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ، قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے کسی عورت کا پرداہ نہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا۔

(حوالہ: *مدادِ النبوة*، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اردو ترجمہ، جلد ۲۔ ص ۲۸۲)

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زمانہ اقدس کے منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس میں کتنا دم تھا، زمانہ اقدس کے منافقین کی اتباع میں دور حاضر کے منافقین بھی ایسی بے وقوفی سے لبریز باتیں کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے برأت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی طرف سے نہ ظاہر کی بلکہ وحی آنے کے بعد اعلان برأت کیا۔ ان عقل کے اعمی کو کیا نہیں معلوم کہ حضور اقدس جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے پر، وحی والہام ہونے پر ہی آپ کلام فرماتے تھے۔ کبھی آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام بصورت قرآن ہوتا تھا اور کبھی بصورت حدیث۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَيْ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

(پارہ ۲۷، سورہ النجم، آیت ۳)

ترجمہ ”اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر جو وحی ان کو کی جاتی ہے“ (کنز الایمان)

دور حاضر کے منافقین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے واقعہ کو آڑ بنا کر حضور اکرم ﷺ کے علم غیب کی نفعی کی راہ نکالنے کی مضمکہ خیز باتیں کر کے خود مضمکہ خیز بنتے ہیں۔ عداوت و بعض نبی میں اپنے ذہنی اختراع کی بے تکی اور بے جا باتیں اپنی ناپاک زبان سے کہہ کر اپنی بے راہ روی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ کے علم غیب کے اثبات میں آیات قرآن، دفاتر احادیث اور اقوال ائمہ دین اتنی کثیر و افر تعداد میں شاہد و عادل ہیں کہ کئی ضخیم کتب مرتب ہو سکتی ہیں۔

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محقق بریلوی اس پورے واقعہ کی عکاسی اپنے اس شعر میں یوں کرتے ہیں۔

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ
ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام

یعنی امام اہل سنت ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایسی پاک دامن اور عصمت و عفت آب تھیں کہ ان محاسن کی وجہ سے ان کی صورت نورانی تھی ”ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام“ اور یہ حقیقت ہے کہ پاک دامن اور نیک کردار کے چہرے پر ہی نور ہوتا ہے۔ بد عقیدہ اور بد عمل کے چہرے پر نور نہیں ہوتا بلکہ سیاہی اور کالک ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنے میں بھی مکروہ محسوس ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہر سنی
مسلمان کو انبیائے کرام علیہم السلام کی سچی عظمت و محبت عطا فرمائے
اور انبیائے کرام کی مقدس ازواج کی تعظیم و تکریم کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ان کی
جناب میں نازیباونا شائستہ الفاظ بولنے سے محفوظ و مامون رکھے۔

آمين۔ یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و
مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و أصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔
آمين۔



www.Markazahlesunnat.com

فقہ اسلامی حنفی کا عظیم انساں کلو پیڈیا، مجموعہ علوم کشیرہ
آسمان فقہ کا چمکتا دمکتا ماہ شب تاب، تشنگان علوم و فنون کیلئے شراب سیراب

العطایا النبویة

فی

الفتاوی الرضویہ

مترجم

۲۳ جلدیں مع حیات اعلیٰ حضرت ۲ جلدیں

(کل ۲۶ جلدیں)

عمرہ سفید کاغذ، آفسیٹ کی بہترین چھپائی لکش و دیدہ زیب ٹائپیٹ
ساتھ میں ایک خوبصورت الماری مع ضروری اشیاء مطالعہ

قیمت - 8000/-

رابطہ قائم کریں:

مرکز اہل سنت برکات رضا

امام احمد رضا روث، نیمن واد، پوربندر۔ (گجرات)

فون 0286 2220886